

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ٹوٹ ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت

داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

2019

Pakistan is determined for the ^{establishment of} peace in Afghanistan as it is very crucial for Pakistan. In context of history, Pakistan and Afghanistan, ~~are~~ ~~related~~ historically, culturally and linguistically neighbour Islamic countries, are related historically, culturally and linguistically.

These relations are very strong as both countries depend on each other and they can not remain separate. Pakistan's stance has been that there should be political solution for the Afghan issue since the very first day. China also support this stance. For this, China said that solution for Afghan issues is only possible through peace talks under Afghan leadership. Pakistan and China will play their

role ~~for~~ to solve Afghan issues
through peace talks for Strategic
relations.